

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المراثية المباركة

شؤون ذكر الحسين
١٠٧٩ ٣٢٢

ساعة انتم

الذكر الحسيني

للداعي الاجل الفاطمي العلامة الخبير
سيدنا ابي جعفر الصادق عالي قدر مفضل سيف الدين
طول الله عمره الشريف الى يوم الدين

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ



ذِكْرُ الْحَسَنِ
ذِكْرُ الْحُسَيْنِ

عَامُ شُكْرِ الْبَرَكَاتِ السَّنَةِ
سَاعَةَ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

۱

يَا فَوْزَ قَوْمِ ذَاكِرِينَ شَاكِرِينَ

أَبَاكَ مُصَابُهُ جَمِيعَ الطَّاهِرِينَ

فَاذْكُرْهُ يَا أَهْلَ الْوَلَاءِ الطَّافِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

حسین امام صع نی ذکر۔ ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے،
عجب وہ قوم واسطے فوز چھے، کہ جد سگلا حسین امام صع نی ذکر کرے
چھے، انے یر ذکر نی نعمۃ پر شکر کرے چھے،

اپ نی مصیبت یر تمام اولیاء طاہرین صع نے زلایا،

تمیں بھی۔ لے اهل الولاہ!

یر حسین امام صع نے روئی لو، لے ظافرین۔ جیت نا حاصل کرنا نا
زُمرۃ ما شامل تھی جاؤ،

حسین امام صع نی ذکر۔ ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے!

وَاللَّهُ ذِكْرُهُ عَظِيمُ النِّعْمَةِ

۲

فَإِنَّهُ يُحْيِي بَلِيَّ الرِّمَّةِ

كَجَدِّهِ فَهُوَ وَسِيعُ الرَّحْمَةِ

أَطِيبَ بِهِ مِنْ نُشْرَةِ النَّاشِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ص خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

خدا ناقسم! آپ نی ذکر - عظیم نعمتہ چھ ،

ارے! یہ ذکر سڑیلا ہلاؤنے - زندہ کری دے چھ ،

یہ حسین امام صع آپ نا جد رسول اللہ صلح نی مثل ج - رحمتہ واسعتہ چھ ،

حسین امام صع نی ذکر حیوة طیبیة گذار نار او واسطے - عجب پاک تعویذ چھ ،

حسین امام صع نی ذکر - ذکر کر نار او واسطے بھلو توشہ چھ!

إِخْتَارَ سِبْطَ الْمُصْطَفَى الشَّهَادَةَ

۳

فِي سَجْدَةٍ كَامِلَةٍ الْعِبَادَةَ

وَحَالَةٍ دَاعِيَةِ السِّيَادَةِ

بِمَا فَكَأَكُ الْأَوَّلِينَ الْأَخِيرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

رسول الله صلعم نا نواسر حسين امام صع یر سجدة ما شهادة اختيار كيدي ،

اپ نا سجدة - ايک کامل عبادة چه ،

انے یر سجدة ني حالة ما - اپ دعاء کرتا تھا ،

جر سجدة انے دعاء نا سبب - اپ ني نسل ما امامة ني سيادة باقي چه ،

سترنا زمان ما دعاة مطلقين ع ۲ نو سلسله جارية چه ،

جر دعاة - "سيدنا" سي اولكها ئي چه ،

حسين امام صع ني شهادة نا سبب - اولين آخرين نو دين اداء تهئي گيو ،

یر سگلانے چه ٹکارو ملي گيو ،

حسين امام صع ني ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چه !

لِكِمَّةِ الشَّهَادَةِ الْبَقَاءِ
 لِرَايَةِ الْأُمَّةِ اعْتِلَاءِ
 لِآيَةِ الدُّعَاةِ ذِي اسْتِوَاءِ
 بِفَضْلِهَا الْقَاهِرِ كُلِّ الْقَاهِرِينَ
ذِكْرُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

حسين امام صع في شهادة نافضل سيح كلمة الشهادة في بقاء چھ ،
 لے ائمہ نارایة في بلندي چھ ،
 لے دعاة في آية في استقامة چھ ،
 لے یر شہادۃ نوافضل ۔ تمام غالب تھانارپر ۔ غالب چھ ،
 جر مثل حسین امام صع یر چاہیو ۔ یر مثل ج تھیو ،
 آپ یر دشمنو نا تمام ارادۃ نے نابود کری دیدا ،
 حسین امام صع في ذکر ۔ ذکر کر نار او واسطے بھلو توشہ چھ !

فَكَيْفَ لَا يُبْكِي الرَّسُولَ الْأَظْهَرَ



مُحَمَّدًا فِي قَبْرِهِ الْعَالِي الثَّرَى

وَكَيْفَ لَا يُشْجِيهِ فِي سَامِي الذُّرَى

أَحْرَاقُ رِيحَانَتِهِ مِنْ غَادِرَيْنِ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

حسین امام صع - رسول اللہ صلح نا ریحانۃ تھا ،

یہ ریحانۃ نے - غدر نا کرنا راؤ یہ کربلاء ما جلاوی دیدا ،

بھلا! اظلم رسول اللہ نے اپ نی بلند قبر ما - کیم نہ رلاوے؟

انے جر بلند مقام ما اپ تشریف را کھ چھ -

وہاں اپ نے کیم غم زدہ نہ کرے؟

حسین امام صع نی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھ!



وَهُوَ لَعَيْنِ اللَّهِ قُرَّةٌ لِعَيْنِ
وَنُقْطَةٌ عَلَيْهِ فِي عَيْنِ غَيْنِ
فَكَيْفَ لَا يَبْكِيهِ دَوْمًا كُلُّ عَيْنِ

٦

تَمَّ بِهِ تَدْبِيرُ خَيْرِ الْغَافِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

حسین امام ص ع تو عین اللہ العظیمة - امیر المؤمنین ص ع نا انکھو نی
ٹھنڈک چھ ،

انے قائم القیامة علی ذکرہ السلام - حسین امام ص ع نی نسل ما تھاسے ،
قائم علی ذکرہ السلام نی نظر ما - حسین امام ص ع نی قدر گھنی بلند چھ ،

تارے اپ نا اوپر ہر آنکھ کیم نہ روئی!

دراں حال کہ مؤمنین نا گناہو نی مغفرت واسطے - خیر الغافرین نی تدبیر -
اپ نا سبب تمام تھئی ،

حسین امام ص ع نی ذکر - ذکر کر نار او واسطے بھلو توشہ چھ!

تَبِي الْبَتُولُ حُرْقَةً أَكْبَادَهَا

۷

وَهِيَ تَنُوحُ أَسْفًا أَوْلَادَهَا

أَسْبَاطَهَا تَنَدُبُهُمْ أَحْفَادَهَا

لَقَتْلِهِمْ عَطَشِي بِجَوْرِ الْجَائِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

مولانا فاطمة البتول ص ع اپ نا کلیجہ نا ٹکڑاؤ پر عجب جلن سی روئی

چھ، اپ نا فرزندو پر عجب پستاؤ کری نے۔ نوحہ کرے چھ،

اپ نا نواساؤ نے پوتاؤ پر روئی چھ،

کیم کریہ سگلا۔ ظالمین نا ظلم نا سبب۔ کربلاء ما پیاسا قتل تھی گیا،

حسین امام ص ع نی ذکر۔ ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھ!

تُشْعَلُ فِينَا جَذْوَةَ التَّلْهُفِ
تَسْجُرُ فِينَا أَبْجَرَ التَّأْسُفِ
تُشِيرُ فِينَا رَعْشَةَ التَّرْجُفِ
رَزِيَّةٌ حَلَّتْ بِرَأْسِ الصَّابِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ع خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

حسين امام ^ع جہ تمام صابرين ناسيد چھ ، سيد الشهداء چھ ،
اهنا اوپر جہ مصيبة اُتري ، يہ مصيبة يہ -

ہمارا ما - پستاواني آگ نے بھڑکاي ديدي چھ ،

ہمارا اندر - اسف نادر ياؤ نے موجزن کري ديلا چھ ،

ہمارا بدنونے - دُهر جاوي ديلا چھ ،

حسين امام ^ع ني ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھ !



نَبِيَّهِ ذَاكِرِينَ كُلِّ مَنَزَلٍ

۹

دَبَّرَ فِيهِ رَفَعَ كُلِّ مَنَزَلٍ

فَإِنَّهُ مَعْنَى الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ

نُعْنَى عُيُونِ الذَّاكِرِينَ الْعَامِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ص خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

ہمیں۔ امام حسین ^ص عی فی ہر منزل نے یاد کری نے روتا رہیے،

جہ منزل ما اپ یہ ہیولی نا دریا ما ہر ایک گرنار نے۔

چڑھاوانی تدبیر کیدی،

کیم کہ اپ کتابِ مُنَزَّل۔ قرآن مجید فی معنی چھے،

یہ منزلو فی ذکر کرینے۔ یہ منزلو نے اباد کرنا راؤ فی انکھوں واسطے۔

عجب ٹھنڈک چھے،

حسین امام ^ص عی فی ذکر۔ ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے!

اِهْ عَلٰى اَصْحَابِہِ الْغُرِّ الْکِرَامِ
 وَاهْلِ بَيْتِہِ الْاَفَاضِلِ الْعِظَامِ
 وَسَيِّدَاتِ بَيْتِہِ ذِي الْاِحْتِرَامِ
 بِضَوْئِہِ کَانُوْا کَشْمِسِ سَافِرِيْنَ
ذِکْرُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُہُ عَلَیْہِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِيْنَ

عجب مارواہ چھ - حسین امام صع نا روشن اصحاب کرام پر ،
 انے اپ نا اہل بیت افاضل عظام پر ،
 انے اپ نا گھرنا سیلات پر - جہ گھر گھنو حرمة و نتو چھ ،
 یر سگلا اصحاب ، اہل بیت - حسین امام صع نا نور نا سبب
 سورج نی مثل چمکتا تھا ،
 حسین امام صع نی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھ !

أُمَّةٌ سَوَاءٌ هَتَكُوا لِلْحُرْمِ
 وَحَرَّمُوا الْمَاءَ الَّذِي لَمْ يَحْرَمِ
 عَلَيْهِ مَعَ أَصْحَابِهِ وَالْحُرْمِ
 يَا خُسْرَهُمْ مِنْ خَائِبِينَ صَاغِرِينَ
ذِكْرُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

بد اُمّۃ یر۔ تمام حرمتو نا پرداؤ نے پھاڑی دیلا ،
 حسین امام ص ع نا اصحاب نے حرم نا ساتھ ۔ آپ نا اوپر بھی پانی حرام
 کیدو ، جہ پانی کوئی ایک واسطے حرام تھی ،
 عجب ۔ یر بد اُمّۃ نو کھوٹیا پنو چھ ، کریہ سگلا نا ہاتھ بھوئی ما پڑا ،
 نے یر سگلا ذلیل تھیا ،
 حسین امام ص ع نی ذکر ۔ ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو تو شر چھ !

كَمْ صَابَهُ وَقَعُ لِسَهُمْ مُشْحَدِ

۱۲

سَهُمْ عَلَى سَهُمِ أَصَابَ مُنْفَذِ

حَتَّىٰ بَدَا قَدْ صَارَ مِثْلَ الْقُنْفُذِ

يَا شَجَّهَ الْحَاوِي صَفْوَ الْخَائِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ع خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

دشمنویر - حسین امام ص ع نا اوپر گھنا تیز تیرو چلایا ،
اپ نے اتنا تیرو لاگا چھ ، کہ ایک تیر اپ نا جسم اطہر پر لاگے -
یہ تیر پر بیجو تیر لاگے چھ ، تیر سی تیر ٹکرائی چھ ،
یہاں تک کہ اپ نوشیح نورانی قنفذ نی مثل تھئی گیو ،
جہ شیح - تمام خیر لوگو نا خلاصہ چھ ،
حسین امام ص ع نی ذکر - ذکر کر نار او واسطے بھلو توشہ چھ !

يَا هَوْلَ مَنْظَرٍ مُخِيفٍ يُرْعَسُ

۱۳

شِمْرٌ بِخَفٍّ مِنْ حَدِيدٍ يَرْفُسُ

رَأْسًا بِلَا ظَهْرَةَ لَا يُمَسُّ

فَهُوَ أَشْرُ الْخُبَثَاءِ الْكَافِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ع خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

عجب هولناک ، خوفناک انے کمپاؤنار۔ ا منظر چھے ، کہ

لعین شمر۔ جہ تمام خبثاء کافرین نو بدتر چھے ،

یہ لوکھنڈ نا موزہ پھنی نے ایو ،

انے جہ حسین امام ^ع نا ماتھا مبارک نے۔ ناپاک لوگو چھی نہ سکے ،

یہ ماتھا مبارک نے۔ ا ناپاک زور سی لات مارے چھے ،

حسین امام ^ع نی ذکر۔ ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو تو شر چھے !

اِهْ عَلٰی حُلُقُومِهِ الَّذِيْ اُصِيبُ

۱۴

بِقِطْعَةٍ مِنْ خَنْجَرِ الصِّدِّ الْمَعِيْبِ

مَوْضِعِ لَثْمِ خَيْرَةِ اللهِ الْحَبِيْبِ

يُدْمِيْ بِسَطْوَةِ لِشْرِ الْقَاذِرِيْنَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِيْنَ

اِهْ ثُمَّ اِهْ ثُمَّ اِهْ !!

حسین امام ص ع نا وہ حلقوم مبارک پر -

جدر رسول اللہ صلح فی بوسہ گاہ چھ ،

لعین شمر - جدر عیب دار چھ ، ناپاک چھ ، بدتر چھ ، یر بوٹھا خنجر نا

ٹکراسی ا حلقوم مبارک پر - باز رگڑا پھراوے چھ ،

جدر نا سبب یر بوسہ گاہ خون الودہ تھئی گئی ،

حسین امام ص ع فی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھ !

أَبِي عَلَى مُجَدِّلٍ فَوْقَ الرِّمَالِ

۱۵

ضَرْجَهُ دَمًا سِيُوفٌ وَعَوَالٌ

وَرَضَ ظَهْرَهُ خِيُولٌ لِلنِّدَالِ

يَا وَيْلَهُمَّ بِالَّذِينَ كَانُوا سَاخِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ص خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

میں - حسین امام ^ص پر روتو رہیس ،

کہ جد کربلاء نی گرم ریت پر پچھڑایا ہوا چھ ،

تلواروانے بھلاؤنا زخمو نا سبب - یہ جسم خون مارنگایو ہوو چھ ،

دشمنو یہ گھوڑاؤ دوڑاوی نے - اپ نی پیٹھ نے توڑی دیدی چھ ،

عجب یہ سگلا نے ہلاکی - یہ مثل عمل کری نے یہ سگلا یہ -

دین نی مسخری کیدی ،

حسین امام ^ص نی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھ !

اِهْ عَلِي حَلْقِي لَهْ مَجْرُوح

۱۶

اِهْ عَلِي رَاسِي لَهْ مَذْبُوح

اِهْ عَلِي جِسْمِي لَهْ مَطْرُوح

مِنْ قَوْمِ سَوْءِ ظَالِمِينَ خَاسِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ص خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

عجب مارواہ چھ - حسین امام ^صع نا حلق مبارک پر ،
جر ظالمین خاسرین بد قوم نا ظلم نا سبب زخمی تھی گيو ،
عجب مارواہ چھ - اپ نا راس مبارک پر - جر قفاسی ذبح تھی گیا ،
عجب مارواہ چھ - اپ نا جسم پر - کہ جر نے زمین پر پچھاڑی دیو اما ایو ،
حسین امام ^صع نی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھ !

اِهْ عَلٰى شَبِيحٍ غَدًا مَسْلُوبًا

۱۷

مِنَ الثِّيَابِ أَفْرَعَ الْمُحْبُوبًا

بِثُرْبٍ رَمَضَاءَ بَدَا مَتْرُوبًا

تَفُوحُ مِنْهُ نَفَحَاتُ الْعَاطِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ص خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

عجب ماروا هجھ - امام حسين ص ناوراني جسم اطهر پر ،
کہ جہ جسم اطهر پر سي دشمنويہ کپڑا چھيني ليلا ،
ارے - اهو و ظلم چھ ، کہ جہ ناسبب هر محبة کر نار نے جسم ما -
لرزه پيدا تھئي جائی ،
دشمنويہ - کپڑا تو چھيني ليلا ، مگر یہ جسم مبارك -
کربلاء ني گرم ريتي سي ڈھنڪائي گيا ،
اھاسي قدس نا عطر ني خوشبو مہکے چھ ،
حسين امام ص ني ذکر - ذکر کر نار او واسطے بھلو توشہ چھ !

إِهْ أَتَى خِيَامَهُ شَمْرُ الرَّذِيلِ
تَجَرُّوًّا يَجْمَلُ رَأْسَهُ الْجَلِيلِ
وَقَطْرَاتٌ مِنْ دِمَائِهِ تَسِيلُ

۱۸

يَا حَسْرَةً تَدُومُ دَهْرَ الدَّاهِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ع خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

عجب مارواہ چھے، کہ لعین شمر۔ حسین امام ^ع نے قتل کیدا بعد۔
اب ناخیمہ ما ایو،

انے اہنی جُرّاء کتني مھوٹی چھے، کہ اہنا ہاتھ ما۔

حسین امام ^ع نا راس مبارک چھے،

انے اپ ناگلا ماسی خون نا قطرات ٹپکی رہیا چھے،

عجب ماری حسرتہ چھے، کہ جہ حسرتہ جہاں لگ زماناؤ باقی چھے۔

وہاں لگ باقی رہسے،

حسین امام ^ع نی ذکر۔ ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے!

لَهْفِي عَلَى جُرُوحِ رَأْسِهِ الطَّهْوَرِ
بِطَعَنَاتِ النَّصْلِ لِلرُّمَحِ التَّكْوَرِ
يُمِيلُهُ الْعَدُوُّ مَيْلًا كَالسَّكْوَرِ

۱۹

تَخْشَى سُقُوطَهُ قُلُوبُ النَّاطِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ۷ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

عجب مارو پستاؤ چھ - حسین امام ۷ع نا ماتھا مبارک نا زخمو پر، کہ جہ زخمو آپ نا ماتھا مبارک ما کئینک وار بھالا نا بھونکوانا سبب تھیا چھ، جہ ماتھا نے دشمنو یہ بھالا نی نوک پر اونچا کیلا چھ، انے دشمن یہ بھالانے - جیم چھاک دار شخص لہرائی - ایم بھالانے لہراوے چھ، جہ نا سبب دیکھناراؤ نا دلو - ایم کانپی جائی چھ، کہ مبادا یہ ماتھا مبارک گری نہ جائی،

حسین امام ۷ع نی ذکر - ذکر کرناراؤ واسطے بھلو توشہ چھ!

(الداعي الاجل سيدنا عالي قدر مفضل سيف الدين طع ايك بيان ما فرماوے چھ، کہ مؤمنين! ذرہ خیال کرو، کہ شمیر یہ - حسین ناماتھا نے کئی طرح اٹھایو ہسے؟ انے اھنی کنتی بے حرمتی کیدی ہسے؟ انے جہ وقت دشمنو یہ ناماتھا نے بھالا نی نوک پر چڑھایو - تو بھالو کہاں بھوکو ہسے؟ کتنا اندر لگ بھوکو ہسے؟ دشمنو نو قانون سوں تھو؟ کہ حسین ناماتھا مبارک نے صندوق ماموکے، انے لئی چلے، تاکہ منزل پر اترے، تر وقت بھالا نی نوک پر ماتھا اونچا کرے، انے اھل بیت ناخیمہ نا باھر بھالا نی نوک پر ماتھا موکی راھے، پاچھو چلوانو وقت تھائی - تو ماتھا نے صندوق ماموکی دے، تو ا مثل کنتی وار - بھالو ماتھا ما بھونکو ہسے! انے کنتی وار - بھالانے ماتھا ماسی کھینچی نے نکالو ہسے! ہر ایک وار بھونکتا ہسے، انے نکالتا ہسے - تو سوں تھاتو ہسے؟)

بِبَابِ ظُلْمِ رَأْسِهِ قَدْ عُلِقْنَا
بِفَتْحِهِ وَغَلِقِهِ قَدْ طُرِقْنَا
لَأَلَاؤُهُ مَعَ ذَا كَشْمِسٍ شَرْقَا

۲۰

أَهٍ مِّنْظَرٍ يُّهْوِلُ الْبَاصِرِينَ
ذِكْرُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرٌ زَادَ الذَّاكِرِينَ

دشمنو - حسين امام ص ع ناماتھا مبارک پر عجب ظلم کرے چھے ،
یہ ماتھا نے ایک وقت کہاں موکا؟ کہ شہر نا دروازہ پر ، یہ دروازہ کھلے ، لے
بند تھائی ، تو ماتھا - ام سی ام پٹکائی ،
ترساتھ یہ ماتھا نی روشنی - شمس نی مثل چمکی رہی چھے ،
اھ! دیکھنا واسطے ا منظر - عجب هولناک چھے ،
حسین امام ص ع نی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے!



هَلْ بِالْقَضِيبِ يَنْكُتُ الصِّدْلَ لِّلْعَيْنِ

۲۱

بِهَزْبِهِ تَغْرَ الْحُسَيْنِ الْمُسْتَبِينَ

وَهُوَ مَا يَلْتَمُهُ طَهَ الْأَمِينِ

فَكَيْفَ لَا يُسَلَبُ لُبُّ الْخَابِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

سوں بھلا! دشمن مسخري کري نے -

حسين امام صع نا چوکا مبارک پر لاکڑی بھونکے چھ؟

دراں حال کہ یہ چوکا مبارک نے -

طہ الامين رسول الله صلغ وارموار چومتا تھا،

امثل حسين امام صع نو فضل هوئي، تو جد نے اظلم ني خبر پہنچے -

تو پستاوانے حزن ناسبب - اھني عقل چلي کيم نہ جائي!

حسين امام صع ني ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھ!

هَلْ ثَمَّرُ الرَّسُولِ جَازٍ يُقْلَعُ

۲۲

هَلْ خَلَدَ الْوَصِيِّ جَازٍ يُفْرَعُ

هَلْ كَبِدُ الْبَتُولِ جَازٍ يُقْطَعُ

يَا عَظْمَ ظُلْمِ الْفَاسِقِينَ النَّافِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ صَلَّعُ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

سوں بھلا! رسول اللہ صلے نا شمرے حسین ص ع نے

أمیلی ناھوو۔ جائز تھائی؟

سوں بھلا! امیر المؤمنین ص ع نادل حسین ص ع نے کیاوو۔ جائز تھائی؟

سوں بھلا! فاطمة البتول ص ع نا کلیجہ حسین ص ع پر۔

چھری پھراوو۔ جائز تھائی؟

فاسقین دشمنی کرنا راؤ نو۔ عجب اظلم چھے،

حسین امام ص ع نی ذکر۔ ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے!

وَإِنَّ "يَا حُسَيْنٌ" خَيْرٌ سُبْحَةً
تُبْدِلُ كُلَّ فَرْحَةٍ بِقَرْحَةٍ
تُؤْصِلُنَا مَعَ بَيَاضِ الصَّفْحَةِ
إِلَى مَقَامِ الْأَلْفِ لُبِّ الْجَابِرِينَ
ذِكْرُ الْحُسَيْنِ صَعْدُ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

تحقیقاً "یا حسین" فی تسبیح - خیر تسبیح ہے ،

جہرہ درد نے خوشی ما بدلی دے ہے ،

انے ہمارا جان نا صفحہ نے روشن کری نے -

الف نامقام لگ ہم نے پہنچاوی دے ہے ،

جہرہ الف نا صاحب - تمام پھاٹ نا جوڑناراؤ نا خلاصہ ہے ،

حسین امام ص ع نی ذکر - ذکر کرناراؤ واسطے بھلو توشہ ہے !

(الف سی مراد - قائم علی ذکرہ السلام فی ہے)

وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ يُبْكِي بِاِكْيَا

۲۴

يُجِدُّ الْحُزْنَ دَوَامًا دَامِيَا

مَا رَبَّ الْفِدَاءِ يُوفِي قَاضِيَا

رَبِّ اجْعَلْنَا نَحْوَهُ مِنْ بَادِرَيْنِ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ص خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

عاشوراء نودن - خود روتا ہوا زلاوے چھے ،

خون نا انسوسي روئی نے ہمیشہ حُزن نے تازہ کری دے چھے ،

انے فداء تھاوانی امیدونے تمام کری دے چھے ،

اے پروردگار! ہمنے ہمیشہ - عاشوراء نی طرف شتاب کرنا کر جے ،

حسین امام ^ص نی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے !

يَا قَوْمِ قُولُوا يَا حُسَيْنُ! يَا حُسَيْنُ!

۲۵

تَبَرُّوْا بِزَيْنِهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

وَارْجُوا بِهِ الْفَلَاحَ إِذْ يَحِينُ حَيْنٌ

فَلْتَذْخُرُوهُ فِي الصُّدُورِ سَاطِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ص خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

اے ماری قوم! تمیں "یا حسین! یا حسین!" کہو،
اھنی زینۃ سی زینۃ دار تھئی نے۔ تمیں ہر عیب سی پاک تھئی جاؤ،
اے اھنا سبب تمیں۔ موت نی وقت جیت نی امید کرو،
تو پچی تمارا سینہ و ما "یا حسین" لکھی نے اھنو ذخیرۃ کری لو،
حسین امام ^ص نی ذکر۔ ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھ!

لَا تَحْرِمَنَّا رَبِّ رِزْقِ ذِكْرِهِ

۲۶

وَهَبْ لَنَا أَضْعَافَهُ بِشُكْرِهِ

عَجَلٍ بِرَحْمَةِ طُلُوعِ فَجْرِهِ

فَهُوَ مَلَأَ الْمُذْنِبِينَ الْعَاثِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ص خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

اے پروردگار! تو ہمنے - حسین نبی ذکرنا رزق سی محروم نہ رکھے،
انے اہنا شکرنا سبب - یہ رزق ہمنے گوناگون ایچے،
انے رحمتہ کری نے - یہ ذکر نبی فجر نے - ہمارا اوپر شتاب طلوع کرچے،
کیم کہ یہ ذکر - گندگارو واسطے اسروچھے،
حسین امام ^ص نبی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے!

بُورِكَ فِي تَرْبَتِهِ السَّنِيَّةِ

۲۷

فِيهَا شِفَاءٌ مَعَ صَفَاءِ النِّيَّةِ

تُؤْمِنُ مِنْ مَخَافِ الْمَنِيَّةِ

رَبِّ اجْعَلْنَا لَهَا مِنْ زَائِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

حسین امام صع نی بلند تربة ما عجب برکة چھ ،

کہ جہ شخص - صفاء النية سي اهناسي برکة لیسے -

تو اھنا واسطے شفاء چھ ،

یہ تربة - موت ناھر خوف سي امان اے چھ ،

لے پروردگار! توھنے یہ تربة نا زائرین تھکی کر جے ،

حسین امام صع نی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو تو شد چھ!

يَا سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ ابْنِيكَ

۲۸

يَا أَسْوَةَ لِفُضْلًا أَرْتِيكَ

بِكُلِّ مَالِي سَرْمَدًا أَفْدِيكَ

فَفَخْرُ مَنْ فَدَاكَ يَعْلُو الْفَاخِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ع خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

اے سید الشہداء! میں ہمیشہ آپ نے روتو رہیس!

اے فضلاءِ نامقتدی! میں ہمیشہ آپ نو مرتیة پڑھتو رہیس!

اے ماری ہر چیز سی - ہمیشہ آپ پر فداء تھاتو رہیس!

کیم کہ آپ پر فداء تھانار نو فخر - ہر فخر پر بلند چھے،

حسین امام ^ع نی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے!

عَبْدُكَ سِبْطَ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ

۲۹

ذِكْرِكَ يَنْحُو أَوْفِينَ لِلْمَدَدِ

لُطْفِكَ يَرْجُو بَارِكَنَّ فِي الْعُدَدِ

يَا صَفْوَةَ لِلْبَاطِنِينَ الظَّاهِرِينَ

ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ص خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

اے محمد المصطفیٰ ناواسا!

اے باطنین ظاہرین ناصفوة!

اپ نو ا غلام - اپ نی ذکر کرو انو قصد کرے چھ -

اپ اهنے پورے پوری مدد کرو،

اپ نا لطف نی امید کرے چھ - اپ اهنی تیاری ما برکة عطاء کرو،

حسین امام ^ص نی ذکر - ذکر کر نار او واسطے بھلو توشہ چھ!

أَيَا سَلِيلًا لِلْحُسَيْنِ الْمُسْتَضَامِ
 إِمَامَنَا السُّلْطَانَ عَالِي الْمَقَامِ
 أَنْبَلُ لَنَا أَقْصَى الْمُتَى مَعَ ابْتِسَامِ
 بَوَجْهِكَ النَّاصِرِ نَعْمَ النَّاصِرِينَ
 ذِكْرُ الْحُسَيْنِ ^ص خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

اے مظلوم امام حسین نا شہزادہ صع!
 اے ہمارا امام! کہ جد عالی مقام سلطان چھے،
 آپ - آپ نا چہرہء انور - جد تازہ چھے،
 اے سگلا فی تازگی اہنا سبب چھے،
 یہ چہرہ سی ابتسام کری نے - ہماری اقصی امید بخشی دیئے،
 حسین امام صع نی ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے!

يَا يُمِّنَ وَقْتٍ فِيهِ يُطْلَعُ الْبَشِيرُ
 بِخَبَرِ الظُّهُورِ إِنَّهُ يُنِيرُ
 بَيْنَ النَّخِيلِ مَطْلَعَ الْفَجْرِ السَّفِيرِ
 وَنَحْنُ نَحْوَهُ أَعَزُّ السَّائِرِينَ
ذِكْرُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

عجب وہ مبارک وقت ہے، کہ جد وقت ما
 حق نا امام ني - ظُهور ني بشارة دينار - ظُهور ني پُر نور خبر لئي نے -
 کجوريو نا درميان سي - فجر نا طلوع نا وقت ما - طلوع تھاسے ،
 انے همیں يہ بشارة دينار ني طرف - گھني عزة سي چلتا هسو ،
 حسين امام ص ع ني ذکر - ذکر کر نار او واسطے بھلو توشہ ہے !

عَلَى الْحُسَيْنِ مِنَ الْهِنَا السَّلَامُ
 وَإِلَيْهِ الْأَطْهَارِ أَصْحَابِ السَّلَامِ
 هُمْ يُبَلِّغُونَنَا إِلَى دَارِ السَّلَامِ
 سَلَامُهُ الْمَوْصِلُ نَحْوَ الْعَاشِرِينَ
ذِكْرُ الْحُسَيْنِ خَيْرُ زَادِ الذَّاكِرِينَ

ہمارا اللہ - جنہوں نے نام سلام چھے ، انہوں نے سلام -
 حسین امام ص ع نے آپ نا شہزادوں ائمہ طاہرین ص ع نے پہنچتو رہے ،
 جسگلا صاحبو - اصحاب السلام چھے ،
 انہ ہمنے دار السلام لگ پہنچاؤنار چھے ،
 حسین امام ص ع نے ذکر - ذکر کرنا راؤ واسطے بھلو توشہ چھے !
 (اللہ سبحانہ نا سلام ما یہ برکتہ چھے کہ یہ نامین مستغفرین نے ہر دور
 ما - عاشر مدبر نا جوار ما پہنچاوی دے چھے)



